



روزنامہ ساہرا

SAHARA EXPRESS, PATNA



رمضان المبارک کے موقع پر خریداری کیلئے تشریف لائیں



LOUIS PHILIPPE A/10 Maurya Lok Complex
Dak Bungalow Road, Patna-800001 Mob: 9771352300



U.S. POLO ASSN A/27 Maurya Lok Complex
Dak Bungalow Road, Patna-800001 Mob: 9771352300



Satyam Khadi A/24 Maurya Lok Complex Dak Bungalow Road, Patna-800001 Mob: 9771352000



روزنامہ سہارا

SAHARA EXPRESS, PATNA



جلد نمبر: 15 شمارہ: 14 جمعرات 13 مارچ 2025ء مطبوعہ: 12 مارچ 2025ء روضہ المبارک 13 مارچ 2025ء صفحات: 08 RNI.NO.BIHURD/2011/37805 Vol:15 Issue:71 13.03.2025 THURSDAY Re.01 Page:08

ZAM ZAM

حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریول

Hajj Umrah Tour & Travel

Main Khagaul Road, Opp Central Bank of India, Minhaj Nagar, Phulwari Sharif, Patna- 801505

17 JAN 2025 97,000/- DELHI TO DELHI	15 FEB 2025 97,000/- DELHI TO DELHI	03 MAR 2025 1,79,000/- PATNA TO PATNA	07 APR 2025 97,000/- DELHI TO DELHI
---	---	---	---

Ramdan Booking LAST 20 DAY RAMDAN Start 2025

10 MAR 2025 DELHI TO DELHI (1,57,000/-) PATNA TO PATNA (1,68,000/-)

SAUDI AIRLINES/AIR INDIA

Hotel in Makkah - Dar Al-Khaili Rashed Hotel or Similar
Hotel in Madina - Guest Time & Arzwan Saba Hotel or Similar

Package Includes
Accommodation, Visa, Ticket, Laundry, Zamzam, Badar Zeyarat, Transportation, Food, Tour Assistance

9334735020, 9334369891, 9308841431, 9572959246

PATNA TO PATNA 1,08,000/-

CONTACT PERSON OTHER DISTRICT

NEW DELHI Gulam Rasool 9015524677	ASANSOL (W.B.) Muti Sahal Ansari 8868894411	MAHA BAZAR PATNA Sajjad Khan 9308162633	BUXAR Md. Atzal Ansari 9110991456	CHAPRA Md. Sabir 9308841431	SIWAN Ahmad Reza 9308170977	MUZAFFARPUR Md. Rizwan 704957238	DARBHANGA Raja Ansari 8877690469	BIHAR SARIF Md. Sakil 8210721950	ALMAGAJI PATNA Md. Rizwan 8292847945
---	---	---	---	-----------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

بہار اسمبلی میں لا اینڈ آرڈر کے معاملے پر اپوزیشن نے ہنگامہ کیا

پٹنہ، 12 مارچ (یو این آئی) ریاست میں امن و امان کی صورتحال اور بڑھتے ہوئے جرائم کو لے کر آج بہار اسمبلی میں اپوزیشن پارٹی کے ارکان نے ہنگامہ کیا۔ اسمبلی اسپیکر نند کیشور یادو نے بدھ کو دوپہر کے گھنٹے سے چپکلی میٹنگ کے دوران زیر و آوری کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا لیکن اس کے فوراً بعد ہی اپوزیشن ارکان بڑھتے ہوئے جرائم کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے کرسی کے پاس آگئے۔ اپوزیشن نے ریاست میں حال ہی میں پیش آنے والے مختلف مجرمانہ واقعات کا حوالہ دیا اور ریاستی حکومت پر ان کے نکلنے میں ناکام ہونے کا الزام لگایا۔ اسپیکر نے نعرے لگانے والے ارکان کو اپنی نشستوں پر بیٹھنے کی درخواست کی لیکن وہ نہیں مانے شوہر شہاب کے درمیان زیر و آوری کارروائی جاری رہی۔ بعد ازاں اپوزیشن ارکان ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ جلسے اور تحریک التوا کے سلسلہ ہونے کے فوراً بعد، کمیونٹ پارٹی آف انڈیا مارکسٹ لیٹنٹ (سی پی ایم ای) کے رکن محبوب عالم نے التوا کا نوٹس پڑھنے کی اجازت طلب کی، جسے اسپیکر نے منظور کر لیا۔ سب سے پہلے کہا کہ دتوں، خواتین، اقلیتوں اور اس طرح کے دیگر طبقات کے خلاف مجرمانہ واقعات تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جو ریاست میں بھارتیہ جنتا پارٹی (جے پی) جیٹا دل پٹی (جے پی ڈی) کی حکومت کو بے قابو کر رہے ہیں۔

Labbaik Hajj & Umrah TRAVEL SERVICES PVT. LTD.

PRIVATE Hajj 2025 FOR 25 DAYS

INDIA اور SAUDI سرکار द्वारा मान्यता प्राप्त

LICENSE NO :- 4031316360, TIN NO :- 3127102681

FLIGHT FOR MAKKAH

Departure - 27 To 30 May
Arrival - 25 To 30 June

HOTEL DETAILS FOR Hajj

Aziziya/Nouzha	5 Days
Hotel Near Kaaba	5 Days
Hotel Near Madina	10 Days
Meena	5 Days

HURRY UP FOR Hajj @7,50,000/-

- LABBAIK UMRAH BATCH -

12 MAR 2 APRIL 10 APRIL 2 JULY 10 JULY

HURRY UP FOR UMRAH @77,786/-

+91 9241866276, +91 8877112771, +91 9241866275, +91 9241866273
labbaikhajj00786@gmail.com labbaikhajjandumrah hajjumrahwithlabbaik.com

HEAD OFFICE - Haroon colony, sector-2, Phulwari Sharif, Patna.
BRANCH OFFICE- JAMSHEDPUR, BIHAR SHARIF

HAJJ TOUR 2025

Hajj Package 35 Days (Shifting)

دیارے حرم حج عمرہ ٹورس پرائیویٹ لمیٹڈ

DAYARE HARAM

HAJJ UMRAH TOURS PVT LTD

Direct Flight DEL JED / JED DEL By Saudi Airlines (Others Airlines)

DEPARTURE: 08 May 2025 / RETURN: 11 June 2025 (Date Will be changed on some condition)

6,85,000/- 5 & 4 Sharing Room

Package Includes:
Return Air Ticket (Economy Class) | Hajj Visa with Insurance | Best of Accommodation Indian Meals 3 Time | Air-conditioned Transportation | Local Ziyarats in Makkah & Madinah | 5 Liters Zam Zam | Unlimited Free Laundry | Gifted Hajj Kit | Experienced Tour Guide | Include 5% GST |

Package Does Not Includes:
Qurbani | Tawaf E Ziyarat will be Done on own Expense | No Transport Will be Provided from Makkah Building to Haram |

HOTEL DETAIL
Makkah: Anjum Hotel Makkah* 100-200 Meters from Haram ***** or similar
Madinah: Star Hotel* 200-250 Meters from Masjid e Nabawi *** or similar

Package Excludes:
* TCS extra | Any other items / service which are not mentioned above

IMPORTANT NOTES
1. Please activate ROAMING on your Sim before leaving India.
2. Download IMO, SKYPE, BOTIM for your VIDEO & AUDIO CALLS.
3. Please take Printout (HARD COPY) of your Ticket, Visa, Insurance.
4. Please wear EHRAM before crossing Meqat.
5. Please Buy Saudi RYAL from INDIA before reaching AIRPORT.
6. PLEASE keep 50-100 sar change with you handy in pockets.
7. Make sure to Keep your medicine handy with you in hand bags.
8. Do Not Carry INDIAN or ANY POLITICAL FLAGS with you.
9. Watch UMRAH Tutorials on YOUTUBE Before leaving.
10. For Mobile Recharges carry Extension board and Universal Adapter
11. Carry your own Wheelchairs.
12. Water is available only on Buffet Not in Rooms.

TERMS & CONDITIONS
1. Visa and Tickets Fees are Non Refundable.
2. No Refunds if Tour Cancelled within 21 Days of Travel.
3. 50% Advance to Confirm Bookings.
4. Balance 50% to be paid 21 Days before Travel.
5. Airfare is considered of Economy class.
6. No Cash Deposits in our Bank Accounts.
7. Food in Executive, Estem will be in Parcel.
8. Hotel may Change to Similar or Same Category Hotels.
9. Bucket and Tubs will not be available in hotels.
10. No Fans are not available in Rooms Only AC.
11. Indian Toilets are not available only English Toilets.

Mr. Abdur Razaque (11 years experience)
www.dayareharam.com, dayareharam49@gmail.com

یہ ملک سب کا ہے، ساتھیوں کے ہولی اور رمضان منائیں: ایڈیٹر

پٹنہ، 12 مارچ (یو این آئی) راشٹر یہ لوک مورچہ (آر ایم) کے قومی صدر اور ایم پی او پیڈر کشوہا نے بہار اور ملک کے عوام کو ہولی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ ملک سب کا ہے، سب کو ہولی - رمضان کرنا چاہیے۔

پارٹی کے قومی جنرل سکریٹری اور ترجمان فضل امام ملک نے بدھ کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر کشوہا نے لوگوں سے ہولی پر امن، ہم آہنگی اور بھائی چارہ برقرار رکھنے کی اپیل کی اور کہا کہ لوگوں کو ہولی پر رنگوں سے کھیلنا چاہیے لیکن کسی پر طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے لوگوں کو بیسیائی رنگوں سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کے بجائے لوگ قدرتی رنگ یا پھول استعمال کریں تاکہ رنگوں سے کھیلنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہولی گل کے ساتھ خوشی منانے کا تہوار ہے، اس لیے سب کو ہولی کو گل اور سادگی سے منانا چاہیے۔

مسٹر ملک نے بتایا کہ مسٹر کشوہا نے کہا کہ تہواروں میں کسی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ہولی اور چھو ایک ہی دن پڑنے پر انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے قبل بھی ہولی کے دوران چھو کی نماز ادا کی گئی تھی اور کہیں بھی کوئی ہنگامہ یا جھگڑا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی چیزیں ہمارے ملک کے سماجی تانے بانے پر زیادہ اثر نہیں ڈال سکتیں کیونکہ ہمارا ملک تنوع میں اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔

UMRAH After Eid APRIL 2025

DELUXE PACKAGE

DELHI-JEDDAH-DELHI

05 APR. 2025 - 21 APR 2025
99,900/ INR 17 DAYS

06 APR. 2025 - 23 APR 2025
99,900/ INR 18 DAYS

09 APR. 2025 - 26 APR. 2025
99,900/ INR 18 DAYS

FLIGHT DETAILS
SAUDI AIRLINES
SV 759 DEL JED-20:05-23:05
SV 756 JED-DEL 01:55 09:45

SAUDI AIRLINES
SV 759 DEL-20:05-23:05
SV 756 JED-DEL 01:55 09:45

SAUDI AIRLINES
SV 759 DEL JED-20:05-23:05
SV 756 JED-DEL 10:35 18:25

INCLUSIONS:
FLIGHT TICKET
INSURANCE
BUFFET MEAL
TRANSFERS
COMPLETE ZIYARAT
LAUNDRY
ZAMZAM
WI-FI

HOTEL DETAILS:
MAKKAH HOTEL-550 MTR. (AL-FAJR AL BADIE 5) OR THARWAT AL-HUDA
MADINAH HOTEL-100 MTR. (KARAM AL- MADINA) OR SIMILAR
4-5 PAX in 1 ROOM

AIRLINES BAGGAGE:
AIRLINES BAGGAGE
23X2 kg.
in SAUDI AIR
+7KG HAND BAG WITH ZAM-ZAM

AL-AQSA TOUR & TRAVELS

Patna office: Patna Market, Imam Plaza Patna -800004

Contact Person: Mohammad shabbir
Mobile NO: 9661343134 9431294778

Mobile NO: 9661343134 9431294778

Departure Date 04 JAN 2025-20 JAN 2025 SV759 G 04 JAN DEL-JED 20:05-23:05 SV756 G 20 JAN DEL-JED 02:15-09:45 ₹ 95000/- 17 DAYS PACKGE COST	Departure Date 11 JAN 2025-27 JAN 2025 SV759 G 11 JAN DEL-JED 20:05-23:05 SV756 G 27 JAN DEL-JED 02:15-09:45 ₹ 95000/- 17 DAYS PACKGE COST	Departure Date 25 JAN 2025-10 FEB 2025 SV759 G 25 JAN DEL-JED 20:05-23:05 SV756 G 10 JAN DEL-JED 02:15-09:45 ₹ 95000/- 17 DAYS PACKGE COST
---	---	---

No BRANCH 2025 حج بکنگ شروع

Umrah with alhamiz.in

الحمیز Al-Hamiz

Hajj and Umrah Tour & Travels

Office : Shop No. 98, 1st Floor, Patna Market, Patna-800 004
Mr. Faiyazuddin : +91 9931600655, 8340244078, 7368822455
SIWAN & CHAPRA : MD. ASIF AHMAD, DARBAR, Mob.: 09631324684

23x2Kg. Baggage

MAKKAH HOTEL ★★★ AL FAJAR BAIE 5 550 MTR
MADINAH HOTEL ★ KARAM AL MADINA 100 MTR

رمضان المبارک اور سماجی اصلاح

سالم ظفر ار ریادی معلم: ایم۔ ایم۔ عربی و فارسی یونیورسٹی پٹنہ
رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت



ہے، برکت ہے ختم ہے۔ جو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں گہرے اثرات مرتب کرتے ہے۔ یہ مہینہ صبر، تقویٰ اور قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے اور ساتھ ہی ایک صالح معاشرے کی تشکیل میں مدد دیتا ہے۔ کیوں کہ اس مہینے میں عبادات اور اخلاقی تربیت کے ذریعے انسان کے اندر ایسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں جو سماجی اصلاح کا سبب بنتی ہیں۔ جیسے کہ فرد کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتا ہے، اور جب فرد کی اصلاح ہوتی ہے تو پورے معاشرے میں مثبت تبدیلی آتی ہے۔ تو اس وجہ سے رمضان المبارک فرد کی اصلاح کا بہترین موقع عنایت کرتا ہے۔ رمضان المبارک کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ ضبط نفس، تقویٰ اور نیکیوں کی جانب رغبت پیدا کرتا ہے۔ انسان برائیوں سے بچنے کی مشق و کوشش کرتا ہے اور اپنے کردار کو سنوارتا ہے۔ یہی خود احتسابی اور ضبط نفس معاشرتی برائیوں کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ایک ناچھے سے دیکھا جائے تو روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ صبر، ہمدردی اور ایثار کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ اس مہینے میں سماجی ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے، روزہ دار بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کر کے محتاجوں اور ضرورت مندوں کے دکھ درد کو سمجھتا ہے۔ اسی لیے رمضان میں صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ضرورت مندوں کی مدد کی جاسکے اور ایک فلاحی معاشرہ تشکیل دیا جاسکے۔ اور رمضان المبارک کے اندر خاص طور سے مسلمانوں کے درمیان محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کا ایک گولڈن موقع بھی ہوا کرتا ہے۔ اس کی ادنیٰ سی مثال لے لیجئے جیسے مساجد میں اجتماعی عبادات، افطار کی محفلیں اور سحری میں ایک ساتھ کھانے کے مواقع ایک دوسرے کے قریب آنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی یہ مہینہ اختلافات ختم کرنے اور باہمی محبت بڑھانے کا درس دیتا ہے۔ اور اعتکاف جیسی عبادات میں افراد ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں علمی و روحانی گفتگو کے ذریعے اصلاح معاشرہ کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ تاکہ ایک صالح اور عادلانہ معاشرے کی بنیاد عدل و انصاف پر ہوتی رہے، اور رمضان شریف میں ان اصولوں کو اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ جن میں سچائی، دیانت داری اور انصاف کا عملی مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے۔ کاروباری لین دین میں ایمانداری، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی اور جھوٹ و دھوکہ دہی سے اجتناب کرتے ہیں اور یہ اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کی جانب ایک بہترین قدم ہے۔ اور رمضان میں لوگ زیادہ نیکیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں سماجی برائیاں جیسے جھوٹ، دھوکہ، غیبت اور چغلی کم ہونے لگتی ہیں۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے بعد اصلاح کا تسلسل ہمیں محض ایک مہینے کے لیے نیک بننے کی ترغیب نہیں دیتا بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پورے سال نیکیوں پر کاربند رہیں اور اصلاح معاشرہ کی کوشش جاری رکھیں۔ اگر رمضان میں ہم نے تقویٰ، صبر، دیانت داری، سخاوت اور محبت کے اوصاف اپنائے ہیں، تو ان کو بعد میں بھی برقرار رکھنا چاہیے۔ یہی تسلسل ایک ایچہ اور متوازن معاشرے کی بنیاد برقرار رکھ سکتا ہے۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ہمیں روحانی، اخلاقی اور سماجی سطح پر خود کو بہتر بنانے کا موقع عنایت کرتا ہے۔ اس مہینے میں کی جانے والی عبادات، خیرات اور اصلاحی سرگرمیاں اگر مستقل بنیادوں پر جاری رکھی جائیں تو معاشرہ حقیقی معنوں میں اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھل سکتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ رمضان کی برکتوں کو محض چند دنوں کے لیے محدود نہ رکھیں بلکہ انہیں اپنی عملی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں تاکہ ایک صالح، منصفانہ اور فلاحی معاشرہ وجود میں آسکے۔

وقت گرین لینڈ کے قریب تھا اور اس طیارے نے مجموعی طور پر 10 گھنٹے فضا میں گزارے۔ ایئر انڈیا کا کہنا ہے کہ بعد ازاں تحقیقات میں طیارے کے بیٹ الخلا میں پوئی تھین بیگز (پلاسٹک بیگز)، رگ اور کپڑے ملے جو فلیش کرنے کی کوشش کے دوران اس کی پائپ میں پھنس گئے تھے۔ ایئر انڈیا کی جانب سے جاری کی جانے والی متعدد تصاویر میں بیٹ الخلا کی صفائی کے بعد فضلے سے بھرے بیگ دکھائے گئے ہیں۔ ایک تصویر میں عملے کے ایک رکن کو ڈریٹنگ پائپ تھامے ہوئے دکھایا گیا ہے جو مکمل طور پر رگ اور کپڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام مسافر اور عملہ باحفاظت شیکاگو پہنچے اور انہیں رہائش اور متبادل پرواز کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ واضح رہے کہ ہوائی جہاز کے بیٹ الخلا کوئی فسطیہ خصوصی ٹیکنیکوں میں ڈیڑھ گھنٹہ میں اور فٹنگ کے لئے ویکویم سسٹم کا استعمال کرتے ہیں۔ فضلے سے بچنے ٹیکنیکس کو عام طور پر جہاز کے ہوائی اڈے پر اتر جانے کے بعد چھکانے لگایا جاتا ہے۔ ہوا بازی کے ماہر مارک مارٹن نے انڈین اخبار ہندوستان ٹائمز کو بتایا کہ اگرچہ کچھ سے بھرے ہوئے بیٹ الخلا کوئی غیر معمولی بات نہیں لیکن تمام بیٹ الخلا کا ایک ہی وقت میں ناقابل استعمال ہوجانا تقریباً ناممکن ہے اور وہ بھی صرف مسافروں کی غلطی کی وجہ سے، تاہم اس صورتحال میں ایک مسافر بردار طیارے کو بھنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔



ایئر انڈیا کے طیارے کو بیٹ الخلا کے بند ہونے کی وجہ سے سفر ادھورا چھوڑنا پڑا

مسافروں کے سوار ہونے کی گنجائش تھی۔ ایئر انڈیا کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق یہ وہ وقت تھا کہ جب طیارہ بحر اوقیانوس کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ اس وقت زیادہ تر یورپی ہوائی اڈوں پر رات کا وقت تھا اور ایسے میں کسی بھی یورپی ہوائی اڈے پر جہاز کا اترنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ایئر انڈیا کے پائلٹس نے مسافروں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے طیارے کو واپس شیکاگو لے جانے کا فیصلہ فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ فلائٹ راڈار 24 پر ٹی بی ٹی نے جب اس مسافر طیارے سے متعلق جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ طیارے نے جب واپسی کا سفر شروع کیا تو وہ اس

ماہ رمضان میں صرف روزہ رکھنا ہی کافی نہیں

روزہ رکھنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کی حفاظت بھی ضروری ہے اور یہی اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہماری رات تراویح پڑھنے اور دن میں روزہ رکھنے کے اہتمام میں اور روزے کی حفاظت میں صرف ہو کیونکہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احسان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہوجاتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو (سنن نسائی کتاب الصوم رقم الحدیث 2208) احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھنا اور روزہ کی حالت میں بھوک اور پیاس پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے جیسے تم میں سے کسی کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو (سنن نسائی کتاب الصوم رقم الحدیث 2231) یعنی جس طرح میدان جنگ میں ڈھال غازی کے ہاتھ میں ہوتی ہے پس لوگ یا کہ روزہ جہنم کی آگ سے تحفظ کا ذریعہ اور ڈھال بن جائے گا صاحب نہا یہ لکھتے ہیں کہ روزہ کے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ دار کو مومن بناتا ہے اور اس کے باوجود کہ وہ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روزہ کے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مشروریت کے لحاظ سے سترہ اور حفاظت کا سامان ہے جس روزہ دار کا فرض ہے کہ اسے ایسی چیزوں سے بچائے جو اسے فاسد کر دیتی ہیں اور اس کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں روزہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قبر میں داخل نہیں جانے سے آکر روزہ دار کو عذاب سے بچائے گا روزہ قیامت کے دن روزہ داروں کے لیے شفاعت کرے گا اور کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے روک رکھا اس لیے اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے رات کو اسے سوئے نہیں دیا اس لیے میری بھی اس کے متعلق شفاعت قبول فرما تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے قیامت کے دن اس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہوگا (صحیح البخاری باب الريان للصائمین رقم الحدیث 1797) ریان کے بارے میں محدث ملائی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات وہ بظہر بیان ہے کیونکہ اس کی طرف کثیر نہیں جاری ہیں اس کے قریب تازہ اور سرسبز و شاداب پھل پھول بکثرت ہیں قیامت کے دن اس کے ذریعے سے لوگوں کی پیاس زائل ہوگی اور تروتازگی و نظافت ہمیشہ رہے گی اس لئے صرف رمضان کے روزے رکھنے والا ہی نہیں بلکہ ثمرت سے نفعی روزے رکھنے والا بھی اس کا مستحق ہوگا روزہ صرف صبح سے شام تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے پرہیز کرنا نام نہیں بلکہ پوری اسپرٹ Spirit جذبہ اور دل جمعی کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ڈالنا اس کا مقصد ہے اسی لئے روزہ کے دوران گناہوں سے بچنا، فحش گوئی سے پرہیز اور لڑائی جھگڑے سے گریز ضروری ہے نمازوں کا اہتمام اور تلاوت میں وقت گزارنا بھی روزہ کے مشاغل میں شامل ہیں روزہ دار کو روزہ رکھ کر غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا کہ صلہ رحمی کا جذبہ پیدا ہونے کی وجہ سے بعض لحاظ ایسے آتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر موملادہا بارش کی طرح برستی ہے تا کہ مومن اس رحمت کو پا کر ہمیشہ ہمیش کی بدبختی سے بچ جائے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور نعمتائیات بہت زیادہ بڑھی ہوئیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ڈھیروں ڈھیروں سے نوازتے ہیں اور مانگنے والوں کے لیے خیر و برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں ہماری کامیابی و کامرانی اسی میں ہے کہ اس ماہ میں تن من دھن سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں اور رحمت و مغفرت کی اس عظیم نعمت کو حاصل کر لیں جو خدا کی رضا کے بغیر ہفت اقلیم کی دولت دے کر بھی نہیں مل سکتی۔

انڈین فضا کی کمپنی ایئر انڈیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ گزشتہ ہفتے امریکہ سے انڈیا آنے والی ان کی ایک پرواز کو اس وقت واپس امریکہ جانا پڑا تھا کہ جب مسافروں نے اس کے زیادہ تر بیٹ الخلا میں پلاسٹک کے تھیلے، رگ اور کپڑے فلیش کرنے کی کوشش کی۔ ایئر انڈیا کا یہ طیارہ امریکی شہر شیکاگو سے انڈیا کے دارالحکومت دہلی جا رہا تھا اور امریکہ واپسی سے قبل اس طیارے نے کئی گھنٹے ہوا میں گزارے۔ طیارے کے اندر سے سامنے آنے والی ویڈیو میں مسافروں کو فرائیج کے عالم میں عملے کے ارکان کے ارد گرد جمع دیکھا جاسکتا ہے جو صورتحال کی وضاحت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس واقعے نے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے جس میں بہت سے لوگ ہوائی جہاز میں ہاتھ روم یا بیٹ الخلا کے استعمال اور اس کے آداب سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ دوران سفر مسافر کے کھانے میں زندہ چوہا بھنگنے پر جہاز کی بھنگامی لینڈنگ: چوہا جہاز کے لیے کیوں خطرناک ہے؟ ایئر انڈیا کی جانب سے بیرونی جاری ایک بیان کے مطابق یہ واقعہ 5 مارچ کو ایئر انڈیا کی پرواز 126 میں پیش آیا تھا۔ پرواز کے اڑان بھرے کے تقریباً دو گھنٹے کے بعد عملے کے ارکان نے اعلان کیا کہ جہاز کے اندر کچھ بیٹ الخلا ناقابل استعمال ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد انھیں پتہ چلا کہ بڑس اور انٹرویو کلاس کے 12 میں سے 8 بیٹ الخلا ناقابل استعمال ہو چکے ہیں۔ جس کی وجہ سے جہاز میں سوار مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایئر انڈیا کی اس فلائٹ میں 342

مفتی ابوالفضل ندوی سزوپٹی مدھونی
ماہ رمضان اپنی تمام تر نعمتوں اور رفتوں کے ساتھ ہم پر ساری لگن ہے یہ مہینہ نیکیوں کی بہار کا موسم ہے یہ نعمتوں کا خزانہ ہے برکت و مغفرت کا مقدس مہینہ ہے اس کے فضائل بے شمار اس کے برکات لازوال اس میں مومن بندوں پر اللہ پاک کی رحمت اور عنایت کا نزول ہوتا ہے اس ماہ مبارک کی آمد پر مسجدوں کی زیبائش بڑھ جاتی ہے گھروں میں افطار و سحری گرم بازاری نظر آنے لگتی ہے پورے مسلم معاشرہ میں تقویٰ و پرہیزگاری کی لہر دوڑنے لگتی ہے ہر خاص و عام کے چہرے نور سے پر رونق لگنے لگتے ہیں، سر سے پاؤں تک نورانی لباس میں ملبوس ہونے لگتے ہیں کیونکہ خالق کائنات نے روزہ داروں کو یہ خوشخبری سنائی کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں ایمان و یقین اور اجر و ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح عبادت کا اجر دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ستر گنا اور اس بھی زیادہ دینے کا اعلان کر دیا اس ماہ مبارک میں اسلام کے بنیادی ارکان میں سے پورے 30 روزے کی ادائیگی کا اہتمام ضروری ہے یہ وہ عظیم برکت و عظمت عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود عنایت فرمائے گا کیونکہ فرمان الہی ہے میرا بندہ روزہ صرف میرے لیے رکھا ہے اس لیے میں خود اس کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے دوں گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ خود اپنے ہاتھوں سے روزہ داروں کو عطا فرمائے گا تو ہم پر لازماً یہ بات عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کے سامنے پھیلائے والے نہیں ماہ رمضان میں صرف



دوسرا عشرہ بخشش و مغفرت طلب کرنے کا!

سورج طلوع ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اُمت کو توبہ و استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں اے لوگو! اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرو، پیشکش میں بھی دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ (صحیح مسلم) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ (ترمذی شریف) اسی طرح آپ نے اور ارشاد فرمایا کہ گناہ سے (سچی) توبہ کرنے والا اُس شخص کی طرح ہے کہ جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ (ابن ماجہ شریف) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، محافظ فرشتے اُس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، اُس کے اعضاء جسمانی بھی اُس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، زمین کا وہ کھڑا کہ جس پر اُس نے گناہ کیا ہے ساتھ ہی آسمان کا وہ حصہ کہ جس کے نیچے اُس نے گناہ کیا ہے اُس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اُس کے گناہوں پر گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ (مشافقت القلوب) یہ بات بھی انسان کی سعادت مندی کی

تو ہے اللہ انسان کو طویل زندگی عطا فرمائے اور ساتھ ہی گناہوں پر توبہ و استغفار کی سعادت بھی نصیب ہو۔ لہذا ہم اس عشرے میں اللہ رب العزت سے کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کریں، اور اس دعا کا کثرت کے ساتھ ورد کریں۔ ”استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ“ میں اللہ سے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ توبہ و استغفار کرنا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے اسی وجہ سے اللہ نے بہت سی قوموں سے عذاب کو نال دیا تھا۔ لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم کثرت کے ساتھ ان دس دنوں میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور مغفرت طلب کریں۔ منہ انص کی پابندی اور نفسی عبادت کا بھی اہتمام کریں حناص طور سے نماز تہجد کا، رات کی تہنائی میں کھڑے ہو کر ندامت کے آئینہ کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی منہ پائی پیش کریں ہمارا رب بہت مہربان اور رحم و کرم فرماتے والا ہے یقیناً اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو توبہ و استغفار کے ساتھ ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

از۔۔ مولانا محمد محفوظ قادری 9759824259
رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہوا۔ اب دوسرا عشرہ ہمارے اُپر سایہ منگن ہو چکا ہے، یہ عشرہ اللہ رب العزت سے بخشش و مغفرت طلب کرنے کا ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں روزے اور عبادات کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان مغفرت کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس شخص کی توبہ قبول ہوگی رب نے اسے بخشش دیا اور وہ ماہ رمضان کے فضائل و برکات سے بھی فیضاب ہو گیا۔ اور جو شخص اس ماہ کو پانے کے بعد بھی اپنی بخشش و مغفرت سے سرفراز ہو تو وہ سخت خسارہ اٹھانے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ اس عشرے میں بندہ مومن کو چاہئے کہ کثرت سے اللہ سے توبہ و استغفار کرے کیونکہ مترآن وحدیرث میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لئے بہت زیادہ خوشخبری سنائی گئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ”اور توبہ کرو اللہ کی طرف اے مومنو! تاکہ تم فلاح پاؤ“ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ رات میں اپنی رحمت کو وسیع کرتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والے توبہ کریں اور اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، اسی طرح دن میں اپنی رحمت کو دراز فرماتا ہے تاکہ رات کے گناہ گاروں کی توبہ قبول فرمائے یہاں تک کہ منہ رب سے

مصنف: مولانا قاری اسحاق گورا

ہندوستان میں ہمیشہ سے ہی مختلف مذاہب، ثقافتوں اور تہواروں کا ایک ہم آہنگ امتزاج رہا ہے۔ یہی گواہی دیتی ہے کہ جہاں ہر سال ہولی، دیوالی، رمضان اور عید جیسے تہوار مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھنے اور احترام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن حالیہ برسوں میں، خاص طور پر اتر پردیش اور دیگر ریاستوں میں، کچھ سیاستدانوں اور سماجی عناصر نے ان تہواروں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔



رمضان اور ہولی جیسے اہم مذہبی مواقع پر سیاست کی ایک نئی جہت سامنے آ چکی ہے، جہاں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کی کوششیں جاری ہیں۔ اس سال، رمضان کے دوران ہولی کے تہوار کا آنا حالات کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے۔ رمضان کے دوسرے جمعہ کا دن اور ہولی کا تہوار ایک ساتھ آنا کچھ شریکین معاشرے کے لیے نیا موقع بن سکتا ہے تاکہ وہ فرقہ وارانہ ماحول کو مزید ہوا دیں۔

اتر پردیش ایک اہم ریاست ہے جہاں سیاست، خاص طور پر فرقہ وارانہ سیاست، کا بڑا کردار رہا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں اس ریاست میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تقسیم کو بڑھا کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس بار رمضان اور ہولی کے موقع پر، خاص طور پر سوشل میڈیا پر فرسٹ ہینڈ رپورٹوں کے تنازعہ کی بنا پر، ماحول کو مزید کشیدہ کر دیا ہے۔ ان بیانات میں ہولی کے دوران مسلمانوں کے مخصوص مذہبی فرائض پر سوالات اٹھائے گئے اور سڑکوں پر نماز پڑھنے کے حوالے سے اشتعال انگیز باتیں کی گئیں۔

یہ بیانات ایک بڑی سازش کا حصہ ہو سکتے ہیں جس کا مقصد مسلمانوں کو اشتعال دلانا اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو توڑنا ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سیاسی چالاکیوں کو سمجھیں اور ان کے خلاف حکمت عملی کے تحت عمل کریں۔

فرقہ واریت کی سیاست کے تناظر میں مسلمانوں کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان چیلنجز میں سے کچھ اہم درج ذیل ہیں:

ہولی کے دوران کچھ شریکین معاشرے کی عبادتوں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر جمعہ کی نماز اور تراویح کے دوران شرارتیں کی جاسکتی ہیں تاکہ کسی بھی موقع پر مسلمانوں کی عبادت میں خلل ڈالا جاسکے۔ اس کے علاوہ، سڑکوں پر نماز پڑھنے کے سلسلے کو مزید آٹھایا جاسکتا ہے تاکہ مسلمانوں کو مجبور کیا جاسکے کہ وہ اپنی عبادت کو محدود کریں۔

سوشل میڈیا ایک طاقتور ہتھیار بن چکا ہے، جہاں افواہیں، جھوٹی خبریں اور اشتعال انگیز مواد تیزی سے پھیلتا ہے۔ رمضان اور ہولی کے موقع پر، بعض عناصر سوشل میڈیا کا استعمال مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ جھوٹے ویڈیوز، پروپیگنڈے اور اشتعال انگیز تصویروں کے ذریعے مسلمانوں کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جاسکتا ہے۔

رمضان اور ہولی کے دوران، مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز مہمیں کی گئیں۔

رمضان میں ہولی، جمعہ، سیاست اور مسلمانوں کی حکمت عملی

اگر کوئی ایک طرفہ کارروائی ہو یا مسلمانوں کے خلاف زیادتی کی جائے، تو فوری طور پر قانونی مدد حاصل کرنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا اور کسی بھی طرح کے اشتعال انگیزی میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قانون کا احترام کرنے سے ہی ہم اپنے حقوق کا دفاع کر سکتے ہیں اور اپنی عزت و وقار کو بچا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں امن و سکون کو فروغ دیں۔ مساجد اور کمیونٹی سینٹرز میں نظم و ضبط قائم رکھیں، خاص طور پر رمضان اور ہولی کے دوران۔ نوجوانوں کو بہتر تربیت دیں اور انہیں اس بات سے آگاہ کریں کہ کوئی بھی اشتعال انگیز حرکت یا بے جا جارحانہ پورے علاقے میں مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شریکین معاشرے جگہ فساد یا شرارت کرنے کی کوشش کریں، تو مسلمانوں کو انہیں نظر انداز کرنا ہوگا اور فوری طور پر انتظامیہ کو اطلاع دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ، مقامی سطح پر اپنے ہندو بھائیوں سے تعلقات کو مضبوط بنانا بھی اہم ہے۔ ہولی جیسے موقع پر، مسلمانوں کو ہندو برادری کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانا چاہیے تاکہ آپس میں اختلافات کم ہوں اور امن و سکون کی فضا قائم ہو۔

معیشت کا پہلو بھی مسلمانوں کے لیے ایک اہم چیلنج بن سکتا ہے۔ فرقہ وارانہ سیاست کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروباروں کو نشانہ بنایا جاسکتا ہے یا انہیں معاشی نقصان پہنچایا جاسکتا ہے۔ اس لیے، مسلمانوں کو اپنے کاروباروں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کسی بھی مشکل وقت میں خود کفیل رہیں اور کسی بھی طرح کے بائیکاٹ یا معاشی مشکلات سے بچ سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے کاروباروں میں ایمانداری سے کام کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور اپنے مالی مسائل کو خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے دین کی تعلیمات کو اپنائیں اور اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دیں تاکہ وہ اپنے حقوق کا دفاع کر سکیں اور معاشرے میں عزت و مقام حاصل کر سکیں۔ تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کو نہ صرف اپنے حقوق کی اہمیت کا پتا چلے گا بلکہ وہ اپنے معاشرتی مسائل کو بہتر طریقے سے حل کرنے کے قابل بھی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ، مسلمانوں کو اپنی ثقافت اور مذہبی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے بھی کام کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی شناخت کو برقرار رکھ سکیں اور معاشرے میں اپنا مقام حاصل کر سکیں۔

آخر کار، مسلمانوں کا مقصد صرف اپنے حقوق کا دفاع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں ملکی سطح پر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے، امن و سکون کی فضا قائم کرنے اور قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے پر بھی زور دینا چاہیے۔ اگر مسلمان صبر، حکمت اور ایک مضبوط حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں تو نہ صرف وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے بلکہ پورے ملک میں ایک مثبت پیغام بھی دیں گے کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارہ ہی ہندوستان کی اصل طاقت ہے۔ مسلمانوں کا کردار اس وقت نہ صرف ان کی کمیونٹی کے لیے بلکہ پورے ہندوستان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر مسلمان اس حکمت عملی کو اپناتے ہیں تو نہ صرف وہ اپنے مذہبی اور سماجی حقوق کا تحفظ کر سکیں گے بلکہ وہ اپنے معاشرتی و اقتصادی حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ایک ایسے ہندوستان کی بنیاد رکھ سکتے ہیں جہاں ہر مذہب، ہر فرقے کے افراد کو برابر کے حقوق حاصل ہوں۔

رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ وقت ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ خاص طور پر اتر پردیش جیسے حساس علاقوں میں جہاں فرقہ وارانہ سیاست اور اشتعال انگیزی کے امکانات زیادہ ہیں، مسلمان اگر صبر، حکمت اور آگاہی کے ساتھ عمل کریں تو نہ صرف اپنے مذہبی فرائض کی حفاظت کر سکتے ہیں بلکہ اپنی کمیونٹی کے امن و امان کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت، مسلمانوں کی حکمت عملی کا تاثر نہ صرف ان کی برادری بلکہ پورے ملک پر پڑے گا۔ ایسے میں ایک مضبوط حکمت عملی اور حکومتی، سماجی اور کمیونٹی سطح پر اہم اقدامات کی ضرورت ہے۔

رمضان اور ہولی جیسے مذہبی تہواروں کے موقع پر اشتعال انگیز بیانات، افواہیں اور جھگڑے پیدا کرنے کی سازشوں کا سامنا کرنا ایک عام بات بن چکی ہے۔ مگر اس کا جواب جذباتی رد عمل سے دینا نہیں، بلکہ قانون کے دائرے میں رہ کر درست طریقے سے جواب دینا ہوگا۔ یہ ہمارے قومی کردار کو مضبوط کرتا ہے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بڑھاتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا جو درجہ ہوگا، وہ پورے ملک میں ایک پیغام دے گا۔ لہذا، ان کی حکمت عملی کا مقصد صرف اپنے حقوق کا دفاع کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کا قیام اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا فروغ، اور قانون کی حکمرانی کے تحفظ کو بھی مقدم رکھنا چاہیے۔

سب سے پہلے تو صبر اور حکمت کی اہمیت بے حد بڑھ جاتی ہے۔ جب کسی بھی ماحول میں اشتعال انگیزی کی جائے یا لوگوں کو بھڑکا یا جائے تو اس وقت مسلمانوں کو صبر کا دامن تھامنا چاہیے اور قانونی طریقے اختیار کرنا چاہئیں۔ یہ بات قرآن و سنت سے واضح ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی اذیت یا تکلیف کا مقابلہ بردباری اور صبر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ماننے والوں کو ہر حالت میں صبر کی تلقین کی ہے، چاہے وہ ظلم ہو یا آزمائش۔ اس لیے، ہمیں ہر حالت میں حکمت سے کام لینا ہوگا اور کسی بھی صورتحال میں بے وقوفی یا غصے میں آکر فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔

سوشل میڈیا کا کردار بھی اس وقت بہت اہمیت اختیار کرتا ہے۔ جہاں ایک طرف سوشل میڈیا فرقہ وارانہ سیاست کی طاقت بن چکا ہے، وہیں دوسری طرف یہ مسلمانوں کے لیے ایک موقع بھی ہے کہ وہ اپنے موقف کو درست اور پرامن طریقے سے پیش کریں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی جھوٹی خبروں اور اشتعال انگیز مواد سے اجتناب کریں۔ اس کے علاوہ، اگر کوئی بھی فرضی یا اشتعال انگیز مواد نظر آئے تو فوراً اس کی رپورٹ کی جائے تاکہ اس کے اثرات کو کم کیا جاسکے اور فرقہ وارانہ منافرت کو بڑھنے سے روکا جاسکے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایک چھوٹی سی غلطی پورے ملک میں بحران پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو سوشل میڈیا پر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا اور اس پر شہت اور اہم مقصد مواد شیئر کرنا چاہیے۔

قانون کی حکمرانی کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ جب کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر پولیس اور انتظامیہ سے رابطہ کریں اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے قانونی طریقے اختیار کریں۔

اقدامات کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی معمولی جھگڑا بھی ہوتا ہے تو پولیس کارروائی میں مسلمانوں کو قصور وار ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قانونی طور پر تیار رہیں تاکہ کسی بھی پریشانی کی صورت میں فوری مدد حاصل کر سکیں۔

فرقہ وارانہ ماحول میں مسلمانوں کے کاروبار کو بھی نشانہ بنایا جاسکتا ہے۔ اگر کسی علاقے میں اشتعال انگیزی ہو تو مسلمانوں کے کاروباروں کو نقصان پہنچایا جاسکتا ہے۔ بائیکاٹ کی مہمیں اور دکانوں پر حملے بھی مسلمانوں کے لیے معاشی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔

ایسے حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک حکمت عملی کے تحت ان چیلنجز کا سامنا کریں۔ یہ حکمت عملی درج ذیل نکات پر مبنی ہو سکتی ہے:

سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی اشتعال انگیزی یا provocation کا جواب جذباتی انداز میں نہ دیں۔ قرآن اور حدیث میں صبر اور حکمت کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی صورتحال میں صبر کے ساتھ رد عمل دیں اور اگر ضرورت پڑے تو قانونی راستہ اختیار کریں۔ کسی بھی قسم کی فرقہ وارانہ جھگڑے یا فسادات میں شریک ہونے سے مکمل طور پر گریز کریں۔ مسلمانوں کو مقامی وکلاء، سماجی کارکنوں اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے خود کو ہر طرح کی زیادتی سے بچانے کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ قانونی مدد کی تیاری اور فوری کارروائی کرنے کی صلاحیت مسلمانوں کو پریشانی کے وقت میں ایک طاقتور ہتھیار فراہم کرے گی۔

سوشل میڈیا پر فرضی خبریں اور نفرت انگیز مواد پھیلا یا جاسکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کی غیر مصدقہ یا اشتعال انگیز پوسٹس سے دور رہیں۔ اگر کوئی ایسی پوسٹ نظر آئے تو فوراً رپورٹ کریں اور اس پر تبصرہ کرنے سے گریز کریں۔ یہ فرقہ وارانہ پھیلاؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔

مساجد اور کمیونٹی سینٹرز کے انتظامیہ کو رمضان کے دوران سکیورٹی کے انتظامات بہتر بنانے چاہئیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بچا جاسکے۔ ہولی کے دوران خاص طور پر نماز کے اوقات میں سکیورٹی فراہم کی جائے اور نوجوانوں کو اشتعال انگیزی سے بچانے کے لیے آگاہی دی جائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مقامی سطح پر اپنی ہندو برادری کے افراد سے ملاقات کریں اور رمضان اور ہولی کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اتفاق رائے قائم کریں۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ پروگرامز اور ملاقاتیں کر سکتے ہیں۔

مسلمانوں کو اپنی معیشت کو خود کفیل بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ چھوٹے کاروباروں کو مضبوط کرنے کے لیے مقامی سطح پر ایک دوسرے کی مدد کریں اور کسی بھی طرح کے اقتصادی بحران سے بچنے کے لیے اپنے کاروبار کو مستحکم کریں۔

ہندوستان میں موجودہ حالات میں جب رمضان اور ہولی ایک ساتھ آ

انسان کی صحت کے لئے روزہ کتنا ضروری!

دیا ہے۔ روزہ رکھنے سے دماغ میں اینڈورفین (Endorphins) کی مقدار بڑھتی ہے، جو خوشی اور ذہنی سکون کے ہارمونز کہلاتے ہیں۔ یہ ہارمونز انسان کو پرسکون اور ریٹیکس محسوس کرواتے ہیں۔ روزے کے دوران دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ روزہ نیورول ری جینریشن (Neuronal Regeneration) کو فروغ دیتا ہے، جس سے یادداشت اور سوچنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، جلد، ناخن اور بالوں کی صحت بخیر یورپی سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق، روزہ رکھنے سے جلد کی تازگی اور مضبوطی برقرار رہتی ہے۔ یہ ایک قدرتی اینٹی ایجنگ پروٹین ہے جو جلد کو بھریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ روزہ جسم میں زہریلے مواد کے اخراج میں مدد دیتا ہے، جس سے جلد کی چمک میں اضافہ ہوتا ہے۔ مزید برآں، بالوں اور ناخنوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے کیونکہ روزہ مزاج اور مزاج کے جذب ہونے کے عمل کو بہتر بناتا ہے۔ روحانی، سماجی اور اخلاقی فوائد روزہ صرف جسمانی صحت کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ روحانی پاکیزگی اور سماجی ہم آہنگی کا بھی درس دیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے صبر، استقامت اور خود پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تقویٰ اور بہرہ گیری کی علامت ہے، جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ سماجی اعتبار سے، روزہ رکھنے والا فرد غریبوں اور بھوکوں کی تکلیف محسوس کرتا ہے، جس سے اس میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نتیجہ روزہ محض ایک مذہبی فریضہ نہیں، بلکہ ایک مکمل سائنسی چیلنج ہے، جو جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ جدید سائنس بھی اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ روزہ دل، دماغ، جگر، گردوں، جلد اور دیگر اعضاء کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر روزے کے ساتھ متوازن غذا اور پانی کا مناسب استعمال کیا جائے تو یہ صحت کے لیے حیرت انگیز فوائد فراہم کر سکتا ہے۔ روزہ نہ صرف بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے بلکہ انسانی توانائی، فٹنس اور زندگی عمرا بھی ایک زبردست راز ہے۔ لہذا، روزہ رکھنا نہ صرف ذہنی فریضہ ہے، بلکہ انسانی صحت کے لیے اللہ کی ایک نعمت بھی ہے، جو ہمیں روحانی سکون کے ساتھ ساتھ جسمانی مضبوطی اور ذہنی توانائی فراہم کرتا ہے۔



کرتا ہے، جس سے سینے کی جلن اور تیزابیت کم ہوتی ہے۔ دل اور خون کی نالیوں پر اثرات، دل انسانی جسم کا سب سے اہم عضو ہے، جو زندگی بھر بغیر رُکے کام کرتا ہے۔ روزے کے دوران جسم میں چکنائی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، جس سے کولیسٹرول کیول کم ہوتا ہے اور دل کی شریا میں صاف رہتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر اور ہارٹ ایک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ روزے کے دوران خون کی مقدار میں معمولی کمی واقع ہوتی ہے، جس سے دل پر دباؤ کم ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ روزہ بلڈ پریشر کو نارمل سطح پر رکھتا ہے، کیونکہ جسم میں نمکیات اور پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں خون کا بہاؤ بہتر ہو جاتا ہے۔ وزن میں کمی اور فٹنس، آج کے دور میں موٹاپا ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے، جو بانی بلڈ پریشر، شوگر، ہارمونل بے ترتیبی اور دل کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ روزہ رکھنے کے دوران، جسم میں چربی کے ذخائر کو تازگی کے لیے استعمال ہونے لگتے ہیں، جس سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ برطانوی ماہر طب ڈاکٹر رازین معروف کی تحقیق کے مطابق، روزہ رکھنے سے Metabolism بہتر ہوتا ہے، چربی جلتی ہے اور جسم فٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک قدرتی ڈیٹوکس سسٹم ہے جو جسم کو اندرونی طور پر صاف کرتا ہے۔ دماغ اور ذہنی صحت پر اثرات روزہ ذہنی دباؤ اور بے چینی آج کے دور میں عام ہو چکے ہیں۔ مسلسل کام، معاشی مسائل، سوشل میڈیا کا دباؤ، اور زندگی کی پیچیدگیوں نے انسان کو ذہنی طور پر تھکا

مولانا لقمان تاسمی
صدر جمعیت علماء ضلع پول

انسان کی زندگی کا ہر پہلو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کس چیز میں خیر ہے اور کس میں نقصان۔ اس لیے جو احکام اس نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ، جو تمام جانوں کا خالق و مالک ہے، اپنی مخلوق کی فطرت، ضروریات اور کمزوریوں سے بخوبی واقف ہے۔ انسان کی زندگی کا ہر پہلو اس کے علم میں ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کس چیز میں خیر ہے اور کس میں نقصان۔ اس لیے جو احکام اس نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں، وہ نہ صرف روحانی فلاح کا ذریعہ ہیں بلکہ جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بھی بے حد مفید ہیں۔ روزہ بھی انہی احکام میں شامل ہے، جو محض ایک مذہبی عبادت ہی نہیں بلکہ صحت و توانائی کا ایک مکمل نظام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَ اَنْ تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہیں سمجھ ہو۔) (البقرہ: 184) یہ آیت مبارکہ نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی نقطہ نظر سے بھی روزے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اگر ہم جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں غور کریں تو واضح ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بے شمار طبی فوائد ہیں، جن کا تعلق نہ صرف ہاضمے کے نظام سے ہے بلکہ دل، دماغ، جگر، گردوں اور دیگر جسمانی اعضاء سے بھی ہے۔ روزے کا جسمانی صحت پر اثر

نظام ہضم اور روزہ ہاضمہ انسانی جسم کا ایک پیچیدہ اور مسلسل کام کرنے والا نظام ہے۔ جدید طرز زندگی میں فاسٹ فوڈ، زیادہ مرغن غذاؤں اور بے وقت کھانے پینے کی عادتوں نے معدے پر بے پناہ بوجھ ڈال دیا ہے۔ نتیجتاً، نظام ہضم کی مختلف بیماریاں جیسے بڑھتی، تیزابیت، گیس، قبض اور موٹاپا عام ہو گئے ہیں۔ روزہ رکھنے سے نظام ہضم کو ایک مہینے کے لیے آرام ملتا ہے، جو خاص طور پر جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ جگر وہ عضو ہے جو کھانے کو ہضم کرنے، زہریلے مادوں کو خارج کرنے اور توانائی کے ذخائر کو کنٹرول کرنے کے پندرہ سے زائد اہم افعال انجام دیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جگر کو روزہ کی مشقت سے کچھ گھنٹوں کے لیے سکون ملتا ہے، جس سے اس کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ روزے کے دوران انسولین کی حساسیت میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے خون میں شوگر کی سطح متوازن رہتی ہے۔ اس سے ذیابیطس کے مریضوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ روزہ معدے کے تیزاب کی مقدار کو کنٹرول

مولانا لقمان تاسمی

صدر جمعیت علماء پول

پیش کردہ، محمد مبارک میواتی، پریس سیکریٹری جمعیت علماء متحدہ پنجاب،

نشیات کا زہر ہمارے معاشرے کو دیمیک کی طرح چاٹ رہا ہے: مولانا راشد قاسمی



پول میوات 12 مارچ 25 (محمد مبارک میواتی) جمعیت علماء راجستان کی جانب سے نشہ آور اشیاء کے خلاف آواز بلند کی گئی، جمعیت علماء راجستان کے صدر مولانا راشد قاسمی نے بارہا نشہ کے خلاف ریلی نکالی کہ یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ شراب نوشی، گانجا، اور کسی بھی قسم کی نشہ آور اشیاء کا استعمال کرنے سے صرف ایک فرد متاثر ہوتا ہے بلکہ پورے سماج اور معاشرے پر نشہ کے نہایت ہی خطرناک اثرات پڑتے ہیں، اس لئے دینی، سیاسی، سماجی ذمے داروں کو مل کر نشہ خوروں اور علاقے میں نشہ آور اشیاء کو فروخت کرنے والے، نشہ ایسی کی تسکری کرنے والے لوگوں کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس موقع پر مولانا راشد قاسمی نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نشیات کا زہر ہمارے معاشرے کو دیمیک کی طرح چاٹ رہا ہے، نشہ سے پورے معاشرے پر پرتاہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کتنے ہی خاندان ایسے ہیں جو نشہ میں مبتلا ایسے بچوں کے مستقبل سے ناامید ہو چکے ہیں آج ہماری نوجوان نسل نشیات، شراب، گانجا، جوئے اور دیگر برائیوں میں مبتلا ہو کر نام صرف اپنی زندگی تباہ کر رہی ہے بلکہ اپنے ساتھ اپنے خاندان والوں کے لیے بھی ذلت و رسوائی کا سبب بن رہی ہے ملک و قوم کی ترقی اور مستقبل کے ضامن یہ نوجوان جراثیم پیشہ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ نشہ جسم کے ساتھ جو سچے پیچھے کی مصلحت کو بھی سلب کر کے دکھ دیتا ہے، انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء راجستان اول دن سے ہی نشہ کے خلاف آواز بلند کرنے میں پیش پیش ہے، مولانا راشد قاسمی نے نمائندہ کو بتایا کہ ناظم اصلاح معاشرہ مولانا سید ازہر مدنی، جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر روز اول سے ہی نشہ کے خلاف ہمارا ایک کارکن کھڑا ہوا ہے، اس موقع پر سینکڑوں افراد نے ان سے حصہ لیا، دارالعلوم میوات گنڈ گاؤں کے مہتمم مولانا الیاس نے کہا نشہ اور اشیاء کے استعمال سے نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے، جس کو ہمارا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، جمعیت علماء پول کے صدر مولانا لقمان قاسمی، جرنل سکریٹری محمد مبارک میواتی، نائب صدر مشتاق محمد و قہم قہم لگا تار مولانا نکیم الدین اشرف اناؤڑی صدر جمعیت علماء ہند پنجاب مولانا راشد قاسمی صدر جمعیت علماء راجستان کے مشورہ سے نشہ کے خلاف دن رات کوشش میں مصروف ہیں،

ٹیکنو ہولی رگو تسو: تہوار اور شاندار فتح کا ایک مضبوط جشن



راجی، ہولی صرف رنگوں کا تہوار نہیں ہے، بلکہ جشن، واقعیت اور خوشی کا بھی موقع ہے۔ میلے کی خوشی کو دوکانا کرنے کے لئے ٹیکنو صارفین کو ایک بڑا انعام جیتنے کا سہری موقع فراہم کر رہا ہے۔ یہ 7 مارچ سے 31 مارچ 2025ء کے درمیان ہے اور خاص بات یہ ہے کہ 24 خوش قسمت فاتحین کو ایک نیا سکوٹر، کولڈ واٹر پمپ، ٹیکنو اسمارٹ فون جیتنے کا موقع ملے گا۔ اگر خوش قسمت ڈراما جیتنے پر 14 مارچ 2025ء کو اعلان کیا جائے گا تو پھر تیار رہیں گے۔ ہولی کے جشن میں، ٹیکنو اپنے خوردہ شراکت داروں کی حمایت اور اعتماد کی تعریف کرتا ہے۔ ٹیکنو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہولی کا رنگ بھی برقرار رکھے گا، جہاں بہت سارے حیرت اور متالوں میں جھلک لیتی رہے گی۔ لہذا جڑے رہیں اور اس خاص موقع سے محروم نہ ہوں۔

نیک ریڈیسیبل انگلش اسکول کے طالب علموں نے اپنے دوستوں کے ساتھ رنگوں کا تہوار ہولی کو دھوم دھام سے منایا



موسیقی و تہوار - نرساں ناگیندر کا پانڈے ہولی ہندوؤں کا ایک بہت ہی مقبول اور معروف تہوار ہے۔ اس تہوار کی جھلک پوری دنیا میں آج سے ہیں دکھائی دینے لگی ہے۔ یہ تہوار رنگوں اور گالوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس تہوار میں لوگ ایک دوسرے کو رنگ اور گال لگاتے ہیں۔ ہولی تہوار کی رسم شہروں سے کہیں زیادہ گاؤں میں منائی جاتی ہے۔ موسیقی سب ڈویژن کے دفتر بلاک (Nacc residential) (jalapur english school)



نیک ریڈیسیبل انگلش اسکول جلال کے طالب علموں نے اپنے اپنے کلاسیٹ دوستوں کے ساتھ ایک دوسرے کو گال لگا کر ہولی تہوار کا جشن منایا۔ آج سے ہیں صوبے کے غالباً تمام اسکول ہولی تہوار کے منظر کشیوں کی روٹی گئی ہے۔ اب یہ تمام اسکول مسلسل چار دنوں تک بند رہیں گیں۔

گیا میں ٹیکنالوجی سینٹر کے قیام کے لیے اسٹیک ہولڈرز کا مشاورتی اجلاس

یہ بتاتے ہوئے ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ماہیکرو، اہمال اور میڈیم انٹر پرائزز (MSME) کی وزارت نے ٹیکنالوجی سینٹرز ایکٹیشن پلانز (MSME) کا قیام کی اہمیت کے تحت ملک بھر میں 20 ٹیکنالوجی سینٹرز (TC) اور 100 ٹیکنیشن سینٹرز (EC) قائم کر رہی ہے۔ ان مراکز کا مقصد MSME اور نوجوانوں کو ضروری تکنیکی مدد، اسٹاک ڈیولپمنٹ اور مشاورتی خدمات فراہم کرنا ہے۔ ایرکون انٹرنیشنل لیجنڈ (Ironcon) کو ان TC اور EC کے قیام کے لیے نوڈل ایجنسی نامزد کیا گیا ہے اور گرانٹ ٹھورنٹن اینڈ پائلٹی (GT) کو ملٹی شراکت دار کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ MSME کی وزارت کے ڈیولپمنٹ کمشنر کے دفتر نے گیا کو ایک مکمل مقام کے طور پر شناخت کیا ہے۔ اس سلسلے میں، ہر حکومت نے گیا کے چھوٹے گاؤں میں تقریباً 20 ایگزومینٹس کی ہے۔ گیا میں منعقدہ ایک پروگرام میں جناب آر کے رائے (ایڈیشنل ڈیولپمنٹ کمشنر، MSME وزارت)، جناب بے کے موہیا (AGM ایرکون) اور صنعت کے نمائندوں سمیت تقریباً 90 اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ جناب رائے نے ٹیکنالوجی سینٹر سے متعلق جاری اقدامات پر قیمتی معلومات فراہم کیں اور جرنل انجینئرنگ جیسے شعبوں کی صلاحیتوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے حاضرین کو آگاہ کیا کہ MSME وزارت پہلی PPP ماڈل میں اس ٹیکنالوجی سینٹر اسکیم کو متعارف کروا رہی ہے۔ جناب موہیا نے یقین دلایا کہ ایرکون، MSME کے تکنیکی خلائو پرکرنے اور ہمارے صنعتی ترقی کو فروغ دینے کے لیے ان ٹیکنالوجی مراکز کو ترقی دینے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے، جہاں حکومت پہلے ہی ضروری مشینوں کی خریداری کے لیے اسٹیک ہولڈرز کی توقعات کا جائزہ لینا، کمیوں کی نشاندہی کرنا اور بہترین طریقوں کی تلاش کر رہی ہے۔ انہوں نے MSME کی مشاورتی اجلاس کا بنیادی مقصد MSME اسٹیک ہولڈرز کی توقعات کا جائزہ لینا، کمیوں کی نشاندہی کرنا اور بہترین طریقوں کی تلاش کر رہی ہے۔ انہوں نے MSME کی مشاورتی اجلاس کا بنیادی مقصد MSME اسٹیک ہولڈرز کی توقعات کا جائزہ لینا، کمیوں کی نشاندہی کرنا اور بہترین طریقوں کی تلاش کر رہی ہے۔



میگا بلڈ ڈویژن ڈرائیو کا انعقاد دینے کے جذبے سے ایک قوم متحد: زندگی اچھی ہوتی ہے جب زندگی کا اشتراک ہوتا ہے

LG Electronics India Ltd. کیسرٹو ڈے فنڈ کے ساتھ ایسوسی ایشن میں میگا بلڈ ڈویژن ڈرائیو کا انعقاد دینے کے جذبے سے ایک قوم متحد: زندگی اچھی ہوتی ہے جب زندگی کا اشتراک ہوتا ہے۔

LG Electronics India Ltd. کیسرٹو ڈے فنڈ کے ساتھ ایسوسی ایشن میں میگا بلڈ ڈویژن ڈرائیو کا انعقاد دینے کے جذبے سے ایک قوم متحد: زندگی اچھی ہوتی ہے جب زندگی کا اشتراک ہوتا ہے۔

میگا بلڈ ڈویژن ڈرائیو کا انعقاد دینے کے جذبے سے ایک قوم متحد: زندگی اچھی ہوتی ہے جب زندگی کا اشتراک ہوتا ہے۔

میگا بلڈ ڈویژن ڈرائیو کا انعقاد دینے کے جذبے سے ایک قوم متحد: زندگی اچھی ہوتی ہے جب زندگی کا اشتراک ہوتا ہے۔

* نوجوانان امن سوسائٹی گیت نمبر 2 دھنبا د کے تکمیل قرآن کانفرنس میں علماء اہلسنت کی شرکت

دھنبا د: نوجوانان امن سوسائٹی گیت نمبر 2 کی جانب سے تکمیل قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر دھنبا د کے علماء کرام اور عوام نے بھرپور شرکت کی۔ تلاوت نے محفل میں روحانیت کا رنگ بھر دیا۔ قاری راشد مدنی صاحب نے شکل تراویح قرآن پاک مکمل کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بعد ازاں قاری عبدالمنان جامالی صاحب نے اپنی دلکش آواز میں نعت رسول مقبول پیش کیا۔ ان کی نعت نے محفل میں ایک خاص روحانیت کا ماحول پیدا کیا۔ ساتھ ہی ساتھ حسین فیض شرمندہ پوری نے بھی نعت رسول پیش کی، جس سے محفل میں نور اور رحمت کا رنگ چھا گیا۔ خصوصی خطاب مولانا صادق حسن جھارکھنڈی نے اپنے خطاب میں عوام کو اہم نصیحت کرتے ہوئے بیدار کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کے روزے رکھنا بہت ضروری ہے، والدین کی خدمت کرنا اور علماء اہل سنت کا ادب کرنا بھی ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ مولانا نے نوجوانان امن سوسائٹی گیت نمبر 2 کی حوصلہ افزائی کی، سبیل حسین ٹرسٹ کی سرگرمیوں کی تعریف کی اور کہا کہ یہ ادارہ شہر دھنبا د میں بہت اچھا کام کر رہا ہے، جو عوام کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کے ذریعے دینی تعلیمات کا فروغ ہو رہا ہے۔ اس موقع پر دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں جن میں قاری جہاگیر نعمانی صاحب، حافظہ قاری محمد صاحب اور فرزند صاحب، بقیہ ہرول عزیز جناب شہباز زہر صاحب، قاری طیب صاحب، مولانا انور رضوی صاحب، قاری جہاں گیر قادری صاحب مولانا اظہر بہراچی صاحب، مولانا ثانیق صاحب، قاری افضل صاحب، آفس سیکریٹری محمد فیضان خان، جماعتی نائب، محمد نبیل، محمد فیضان سید عارف محمد محفوظ و جملہ نوجوانان امن سوسائٹی گیت نمبر 2 دھنبا د شامل تھے۔ ان علماء کرام کی موجودگی نے اس محفل کو مزید باوقار اور متنوعیت سے بھر پور بنا دیا۔ اس کانفرنس کے ذریعے رمضان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ نوجوانان امن سوسائٹی گیت نمبر 2 تکمیل حسین ٹرسٹ کی باکوشی سے صرف دینی تعلیمات کا فروغ کر رہی ہے بلکہ عوام کو روحانی سکون اور ہدایت بھی فراہم کر رہی ہیں۔ اس طرح کے پروگرام عوام میں روحانیت، اخلاق اور علم کا شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔

پٹنہ: بی ایس پی ایچ پی ایچ ایل انرجی پارک پٹیل ٹرگرو ڈیمبر 1 میں ایشیا کنشن کرکٹ اکیڈمی کا افتتاح

بی ایس پی ایچ پی ایچ ایل انرجی پارک پٹیل ٹرگرو ڈیمبر 1 میں ایشیا کنشن کرکٹ اکیڈمی کا افتتاح کرکٹ انڈیا نے کیا۔

پٹنہ: بی ایس پی ایچ پی ایچ ایل انرجی پارک پٹیل ٹرگرو ڈیمبر 1 میں ایشیا کنشن کرکٹ اکیڈمی کا افتتاح کرکٹ انڈیا نے کیا۔

پٹنہ: بی ایس پی ایچ پی ایچ ایل انرجی پارک پٹیل ٹرگرو ڈیمبر 1 میں ایشیا کنشن کرکٹ اکیڈمی کا افتتاح کرکٹ انڈیا نے کیا۔

پٹنہ: بی ایس پی ایچ پی ایچ ایل انرجی پارک پٹیل ٹرگرو ڈیمبر 1 میں ایشیا کنشن کرکٹ اکیڈمی کا افتتاح کرکٹ انڈیا نے کیا۔

کیزن انسٹی ٹیوٹ انڈیا اور افاک ہولڈنگز نے آپریشنل انکرجٹا کو فروغ دینے کے لئے شراکت کی

نئی دہلی - 12 مارچ، 2025ء، ہندوستان: کیزن انسٹی ٹیوٹ انڈیا، دہلی پبلی اور کیزن ٹریڈنگ میں مہارت رکھنے والی ایک معروف مشاورت فرم، نے آپریشنل کارکردگی کو فروغ دینے کے لئے اس شراکت کی۔

کیزن انسٹی ٹیوٹ انڈیا اور افاک ہولڈنگز نے آپریشنل انکرجٹا کو فروغ دینے کے لئے شراکت کی۔

کیزن انسٹی ٹیوٹ انڈیا اور افاک ہولڈنگز نے آپریشنل انکرجٹا کو فروغ دینے کے لئے شراکت کی۔

کیزن انسٹی ٹیوٹ انڈیا اور افاک ہولڈنگز نے آپریشنل انکرجٹا کو فروغ دینے کے لئے شراکت کی۔

بہترین سنگل رابلے، جدید ٹیکنالوجی اور عظیم ڈیزائن کے لئے مشہور ای - ڈریو ان ٹیک

برائڈ ٹیکو نے آج فلپ کارٹ پر اپنے اسمارٹ فونز کی ایک نئی رینج لانچ کی

نئی دہلی، 12 مارچ، 2025ء: بہترین سنگل رابلے، جدید ٹیکنالوجی اور عظیم ڈیزائن کے لئے مشہور ای - ڈریو ان ٹیک برائڈ ٹیکو نے آج فلپ کارٹ پر اپنے اسمارٹ فونز کی ایک نئی رینج لانچ کی۔ اس سمارٹ فونز کی ایک نئی رینج لانچ کی۔ اس سمارٹ فونز کی ایک نئی رینج لانچ کی۔ اس سمارٹ فونز کی ایک نئی رینج لانچ کی۔

بہترین سنگل رابلے، جدید ٹیکنالوجی اور عظیم ڈیزائن کے لئے مشہور ای - ڈریو ان ٹیک برائڈ ٹیکو نے آج فلپ کارٹ پر اپنے اسمارٹ فونز کی ایک نئی رینج لانچ کی۔

بہترین سنگل رابلے، جدید ٹیکنالوجی اور عظیم ڈیزائن کے لئے مشہور ای - ڈریو ان ٹیک برائڈ ٹیکو نے آج فلپ کارٹ پر اپنے اسمارٹ فونز کی ایک نئی رینج لانچ کی۔

پٹنہ: بی ایس پی ایچ پی ایچ ایل انرجی پارک پٹیل ٹرگرو ڈیمبر 1 میں ایشیا کنشن کرکٹ اکیڈمی کا افتتاح

پٹنہ: بی ایس پی ایچ پی ایچ ایل انرجی پارک پٹیل ٹرگرو ڈیمبر 1 میں ایشیا کنشن کرکٹ اکیڈمی کا افتتاح کرکٹ انڈیا نے کیا۔

پٹنہ: بی ایس پی ایچ پی ایچ ایل انرجی پارک پٹیل ٹرگرو ڈیمبر 1 میں ایشیا کنشن کرکٹ اکیڈمی کا افتتاح کرکٹ انڈیا نے کیا۔

پٹنہ: بی ایس پی ایچ پی ایچ ایل انرجی پارک پٹیل ٹرگرو ڈیمبر 1 میں ایشیا کنشن کرکٹ اکیڈمی کا افتتاح کرکٹ انڈیا نے کیا۔

پٹنہ: بی ایس پی ایچ پی ایچ ایل انرجی پارک پٹیل ٹرگرو ڈیمبر 1 میں ایشیا کنشن کرکٹ اکیڈمی کا افتتاح کرکٹ انڈیا نے کیا۔

ماہ رمضان میں فطرہ زکات صدقات و عطیات نکالتے وقت مدرسہ دارالعلوم امام ابوحنیفہ رحمت نگر عرف مسہراناٹز کونہ بھولیں



ضلع جموں کا محبوب ادارہ مدرسہ دارالعلوم امام ابوحنیفہ رحمت نگر عرف مسہراناٹز، دینی و دنیاوی تعلیم کا ایک مثالی ادارہ ہے مذہب اسلام کو فروغ دینے کیلئے یہ ادارہ لائق تحسین ہے الحمد للہ مدرسہ ہذا روز بروز ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے معزز اساتذہ کرام کی زیر نگرانی بہت سارے بچے بیچیاں دینی و دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس کو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں مدرسہ ہذا میں تعمیری کام بھی چل رہا ہے لہذا اہل خیر حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے پر بہار موقع سے مدرسہ دارالعلوم امام ابوحنیفہ کے اخراجات دیکھتے ہوئے براہ راست اسکینر پر فطرہ، زکات، صدقات و دیگر عطیات سے تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔

مولانا محمد مقیم شمسٹی ناظم مدرسہ دارالعلوم امام ابوحنیفہ رحمت نگر جموں

رابطہ نمبر 7739394882
اکاؤنٹ نمبر 08300110142486
IFSC code UCBA0000830
Bank name.UCO
Branch name sono jamui



تعاون کی اپیل

جامعہ عربیہ تقویہ الایمان اسلام نگر پرتاپا پوسٹ برہار تھانہ نوہٹہ ضلع سہرسہ کا ایک معتبر ادارہ ہے جس میں کثیر تعداد میں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تمام طلبہ کی کفالت جامعہ خود کرتا ہے جامعہ میں ایک عمارت زیر تعمیر ہے تمام اہل ثروت سے تعاون اپیل ہے۔

ناظم اعلیٰ عبدالجبار ندوی

رابطہ 8102438974

Account number 485120110000094

IFSC CODE BKID0004851

Bank name Bank of India



نختر روزے دار نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا




سہرسہ (لطف الرحمن صدیقی علیک) سہرسہ ضلع کے سلسکوہا بلاک کے مبارک پور پنچایت کے باشندہ حافظ فیصل اشرف کی صاحبزادی نفا نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا جسکی وجہ سے گھر میں خوشی کا ماحول ہے۔ بیٹا مشہور و معروف کریم الرحمن اللہ نے بھی دعائیں دیں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا اور روز نامہ سہارا ایکسپریس پنڈا اپنی جانب سے اس طفل مکتب کو مبارکباد پیش کرتا ہے سہرسہ ضلع کے پٹرگٹ بلاک کے رہنے والے سماجی کارکن ماسٹر رضوان احمد کے فرزند ارجمند ناصر حسین نے صرف 5 سال کی عمر میں روزہ رکھا اور روز نامہ سہارا ایکسپریس پنڈا اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہے۔




رمضان عبادت، تقویٰ اور تہرب الہی کا مہینہ۔ قمر مصباحی ہمیں جھوٹ، غیبت، چغسل خوری، حد، بددیانتی اور دیگر برائیوں سے بچنا چاہیے

(پنڈا نامہ نگار) بہار اسٹیٹ اردو نیچرس ایسوسی ایشن کے سبائی صدر اور معروف عالم دین قمر مصباحی نے رمضان المبارک کی برکتوں اور اس کی روحانی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ رمضان محض کھانے پینے سے رکھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل تہذیبی مہینہ ہے جو جس مہر، وقت ہوتا ہے، جس میں ایک نئی کائنات بنا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزہ انسان کو اپنی خواہشات پر قابو ضرورت مندوں کی مشکلات کا احساس دلاتا ہے، جس سے دل میں رحم اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ گرسے اور اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے ہونے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے اور قمر مصباحی نے کہا کہ چاہیے اگر کوئی شخص روزہ رکھے کہ کبھی ان کتابوں سے نہیں بچتا تو اس کا روزہ محض ایک ریکی عبادت بن کر رہ جاتا ہے، کاموں کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بھوکا پیاسا رہنا باعث اور بے کار ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان، مزید کہا کہ رمضان صبر اور شکر کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس موقع پر ان بے سہارا اور محروم طبقے کی مدد کرنی چاہیے جو بنیادی اور بنیادی چاہتوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ رمضان میں انظار اور سحر کی وقت فخریوں کو کھانا کھلانے، ہناروں کی مدد کرنے نہیں کرنا چاہیے۔ قمر مصباحی نے کہا کہ یہ مہینہ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور عبادت میں گزارنے کا مہینہ ہے۔ اپنا معمول بنائیں اور اس کے پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اس کے علاوہ نماز تراویح کا اہتمام کریں، مانگیں۔ انہوں نے آخر میں تمام مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ رمضان المبارک کی تہذیبی روح کو سمجھیں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں اور اس مبارک مہینے کو اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے استعمال کریں۔ یہ مہینہ ہمیں اصلاح نفس، سماجی ہم آہنگی اور اللہ کی قربت کا سہری موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم رمضان کی برکتوں سے سچی طور پر فائدہ اٹھائیں، تو یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔



نختر روزے



عنا یا ہارون کالونی سکیر 2 پنڈا کے رہنے والی نے 10 سال کی عمر میں روزہ رکھی اللہ سے دعا ہے کہ وہیں اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت دے اور تعلیم سے آراستہ کرے۔

HINDUSTAN TOURS & TRAVELS
ہندوستان ٹورز اینڈ ٹریولز

02 APR/DEL JED 20:05 23:05 21 APR/JED DEL 01:55 09:45	20 DAYS 81000
04 APR/DEL JED 20:05 23:05 20 APR/JED DEL 02:10 10:00	17 DAYS 78000
04 APR/DEL JED 20:05 23:05 23 APR/JED DEL 01:55 09:45	20 DAYS 81000
06 APR/DEL JED 20:05 23:05 25 APR/JED DEL 02:10 10:00	20 DAYS 81000
05 APR/DEL JED 11:50 14:50 26 APR/JED DEL 02:10 10:00	20 DAYS 85000
07 APR/DEL JED 20:05 23:05 26 APR/JED DEL 10:35 18:25	20 DAYS 81000
09 APR/DEL JED 11:25 14:25 28 APR/JED DEL 01:55 09:45	20 DAYS 81000
12 APR/DEL JED 20:05 23:05 27 APR/JED DEL 02:15 10:00	16 DAYS 78000

DELHI HEAD OFFICE:-
YASIR -7400011153
FARHA -7400011152
QUARI ABDUL MATEEN -730330662
303, 3rd FLOOR, VARDHMAN CITY 2 PLAZA, TURKMAN GATE, NEW DELHI-110002
PH NO. 011-46062444

SAMBHAL BRANCH:-
SHAFIQ -9756493401
9410087199
HAJI SHAMIM BUILDING,
NAKHASA NEAR NAKHASA POLICE
CHOWKI SAMBHAL - 244302 U.P.

DARBHANGA BRANCH:-
ZIYA -9990440072
SAJID -9990441944
SAFAT AHMAD-9546096374
MAULAGANI,
NEAR KHALILIYA HOTEL,
DARBHANGA, BIHAR - 846004

MUMBAI BRANCH:-
SOHAIL -9987744448
AJJAZ SHEIKH -999089970
NIDA -9990334430
OFFICE NO. S-10, ELMORE, DOSTI
BUILDING, MUMBAI, KAUSA - 400607

MUMBAI BRANCH:-
SHAKEEL -9820805765
ANJUM -9990660038
ABID -9990660042
OFFICE NO. 10, LASHKARIYA BUILDING, NEAR
MAHATMA GANDHI SCHOOL, BEHRAM BUAG,
JOGESHWARI WEST, MUMBAI - 400102

KASHMIR BRANCH:-
ISHFAQ -9149495477
AARIF -7006695671
GULMARG, TANGMARG
193402

زم زم حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز کی طرف سے عمرہ کیلئے روانہ

AL-BADAR
TOURS AND TRAVELS PVT LTD
GALAXY COMPLEX, GROUND FLOOR
MAIN ROAD RANCHI, JHARKHAND

HAJJ

UMRAH

ZIYARAT

HAJJ PACKAGE 2025

DEPARTURE
28th of May 2025

ARRIVAL
5th of July 2025

₹ 6,50,000

- ✓ 20 Days Makkah
- ✓ Hotel Qasre Saad
- ✓ 5 Days Hajj Ayam
- ✓ 10 Days Madinah
- ✓ Moallim Category (C/D)
- ✓ Hotel Markazia Madinah - 250 mtr.

Flight Ticket
Visa
Travelling Bag
Food
Transportation
All Local Ziyarats
Hotel Accommodation

+91-8521194846 +91-9334544116
+91-7903879120 +91-9708570795

RANCHI TO RANCHI